

[LL 1031]

Sub. Code: 1031

THIRD PROFESSIONAL B.U.M.S. EXAMINATION - AUGUST 2017.

Paper VIII - AMARAZ - E - AIN

Q.P. Code : 621031

Time : Three hours
marks

Maximum : 100

I. Answer the following questions in detail:

(2 X 15 = 30)

1. What is Conjunctivitis? Describe in detail about the various types of Conjunctivitis, write down the aetiology, clinical features and treatment of Acute Membranous Conjunctivitis.

۱۔ رمد سے کیا مراد ہے؟ رمد کے مختلف اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے رمد غشائی حاد کے اسباب، ہریری خصوصیات اور علاج بالتفصیل تحریر کیجئے۔

2. Define Pterygium? Explain the etiopathogenesis, clinical features, and complications, differences between Pterygium & Pseudo-Pterygium and its surgical treatment in detail.

۲۔ ناخونہ کی تعریف بیان کیجئے، ناخونہ کی اسبابی مرضیاتی کیفیت، ہریری خصوصیات، عوارضات، ناخونہ اور ناخونہ کاذب کے درمیان تفریقی علامات اور علاج تحریر کیجئے۔

II. Answer the following Questions in brief:

(10 X 5 = 50)

1. What is Blepharitis? Describe the causes, clinical features and treatment of Blepharitis.

۱۔ التهاب الجفن سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسباب، ہریری خصوصیات اور علاج تحریر کیجئے۔

2. Define Choroiditis, write down the causes and clinical features of Choroiditis.

۲۔ التهاب مشیمیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اسباب اور ہریری خصوصیات تحریر کیجئے۔

3. Define Trachoma mention its causes, clinical features and treatment.

۳۔ جرب الا جفان کی تعریف بیان کیجئے؟ نیز اس کے اسباب، ہریری خصوصیات اور علاج تحریر کیجئے۔

4. Define Strabismus; mention its types, aetiology, clinical features and surgical treatment.

۴۔ حول کی تعریف بیان کیجئے؟ مرض حول کے اقسام، اسباب، ہریری خصوصیات اور علاج جراحی تحریر کیجئے۔

5. What is Cataract? Mention the classification, etiological factors, clinical features, and complications.

۵۔ نزول الماء سے کیا مراد ہے؟ نزول الماء کے اقسام، مسبب عوامل، ہریری خصوصیات اور عوارضات تحریر کیجئے۔

6. Define Ptosis. Mention its types, causes and surgical treatment.

۶۔ استرخاء الجفن کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اقسام، اسباب اور علاج جراحی تحریر کیجئے۔

7. What is Corneal Opacity; mention its types, causes and clinical features.

۷۔ بیاض القرنیہ کیا ہے؟ اس کی اقسام، اسباب اور سریری خصوصیات تحریر کیجئے۔

8. What is Ophthalmia Neonatrum? Explain its causes, clinical features and treatment.

۸۔ رمد نومولود سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسباب، سریری خصوصیات اور علاج تحریر کیجئے۔

9. Define Astigmatism, write down its types, causes, clinical features

۹۔ خلل بصری کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اقسام، اسباب اور سریری خصوصیات لکھئے۔

10. Define Cyclitis, mention its types, clinical features.

۱۰۔ التهاب جسم ہدبی کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اقسام اور سریری خصوصیات تحریر کیجئے۔

III. Answer the following Questions in short:

(10 X 2 = 20)

1. What is Lagophthalmos, mention its causes and complications.

۱۔ خرگوش چشم سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسباب اور عوارضات تحریر کیجئے۔

2. Write a short note on Night Blindness.

۲۔ شب کوری پر مختصر نوٹ لکھئے۔

3. Define Mydriasis. Mention its causes.

۳۔ اتساع حدقہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اسباب لکھئے۔

4. Define Epiphora, mention its causes.

۴۔ دمعه کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اسباب تحریر کیجئے۔

5. What is Dacryocystitis, mention its causes.

۵۔ غرب (التهاب کیسہ دمعی) سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسباب تحریر کیجئے۔

6. Mention the causes and complications of Trichiasis.

۶۔ شعر مقلب کے اسباب اور عوارضات تحریر کیجئے۔

7. Define Symblephron, write down its causes.

۷۔ اتصاق الجفن کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اسباب تحریر کیجئے۔

8. What is Congenital Cataract?

۸۔ موروثی نزول الماء سے کیا مراد ہے؟

9. Differentiate between Entropion and Ectropion.

۹۔ شترہ داخلی اور شترہ خارجی کے درمیان تفریقی علامات تحریر کیجئے۔

10. Define Chalazion, mention its types and causes.

۱۰۔ بردہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اقسام اور اسباب تحریر کیجئے۔